



## سوال

(169) پاؤں کا دھونا بائیں ہاتھ سے سنت ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا پاؤں کا دھونا دائیں ہاتھ کے ساتھ جائز ہے؟ - انوکم: عبدالوارث۔

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سنت پیروں کو بائیں ہاتھ سے ملنا ہے کیونکہ صحیح حدیث میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ طہارت اور کھانے کے لئے تھا اور بائیں ہاتھ قضا کے حاجت اور اذیت والی چیزوں کے لئے تھا“۔ (البوداؤد: 1/6)

اور یہ معلوم ہے کہ میل کچیل کا تعلق اذی سے ہے۔ تو اسکے لئے بائیں ہاتھ ہی مناسب ہے۔

امام بخاری (1/40) میں فرماتے ہیں: ”باب اس شخص کا جو دھونے کیلئے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر (پانی) ڈالتا ہے۔“

میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نہانے کا پانی رکھا پھر ایک کپڑے کے ساتھ پردہ کیا آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیل کر انہیں کر انہیں دھویا پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجاء کیا پھر اس ہاتھ کو زمین پر مار کر ملا اور پھر دھویا پھر گلی کی ناک میں ناک میں پانی ڈالا منہ اور ہاتھ دھوئے پھر سر پر پانی ڈالا پھر سارے بدن پر ڈالا پھر وہاں سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے پھر میں نے آپ کو کپڑا پکڑا یا جو آپ نے نہیں لیا۔ پھر آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑتے ہوئے چلے جیسے کہ المشکاۃ (481) میں ہے۔

اس حدیث میں اگرچہ فرج کی قید ہے لیکن پہلی حدیث ہمارے قول ظاہر دلیل ہے اور پاؤں کو بائیں ہاتھ سے ملنا مستحب ہے

اور ایڑیوں کا اور انگلیوں کا جہاں پانی پہنچنے بغیر بہ جاتا ہے کا خاص خیال رکھے۔ دیکھیں المغنی (1/119)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات  
محدث فتویٰ

## فتاویٰ الدین الخالص

ج 1 ص 382

محدث فتویٰ